



ابو عائشہ! تین باتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان میں سے ایک بھی بات کہی، اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا

مسروق کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا: ابو عائشہ! تین باتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان میں سے ایک بھی بات کہی، اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا میں نے کہا: وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: جس نے خیال کیا کہ محمد (معراج کی رات میں) اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ پر بڑا بے تان لگایا مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگائے ہوئے تھا اور (یہ بات سنتے ہی) سیدھا ہو کر بیٹھ گیا میں نے کہا: ام المؤمنین! مجھے بولنے کا موقع دیجیے اور میرے بارے میں حکم لگانے میں جلدی نہ کیجیے گا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا: ولقد رآه بالأفق المبين اس نے اس کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی (التکویر: 23) نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ولقد رآه تزلة أخرى بے شک اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا (النجم: 13) تب عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیات کے بارے میں رسول اللہ سے پوچھا آپ نے فرمایا: وہ تو جبریل (علیہ السلام) تھے ان دو مواقع کے سوا اور کوئی موقع ایسا نہیں ہے، جس میں جبریل علیہ السلام کو میں نے ان کی اپنی اصل صورت میں دیکھا ہو، جس پر ان کی تخلیق ہوئی ہے میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا ہے ان کی بناوٹ کی بڑائی یعنی بھاری بھر کم جسامت نے آسمان و زمین کو درمیانی جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین اور یاخبر ہے (الانعام: 103) اور کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا كَانَ لَيْتَسَّرَ لَكُمْ أَنْ تَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَكُونُ نَا مِمَّا مَكَّنْ لَكُمْ كَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ مگر وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے، وحی کرے بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے (الشوریٰ: 51) (دوسری بات) عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اور جس نے یہ خیال کیا کہ محمد نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا ہے، اس نے اللہ پر بڑا بے تان باندھا جب کہ اللہ فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ إِنْ رَسُولٌ جَوْ كَچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، پہنچا دیجیے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی (المائدہ: 67) (تیسری بات) عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی نے آئندہ کل پیش آنے والی حالات کا علم رکھتا ہے، اس نے اللہ پر بڑا بے تان باندھا، جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ كَمَا دَجِيحُ كَمَا آسمانوں والوں میں سے اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا (النمل: 65)

[صحیح] [متفق علیہ]

جلیل القدر تابعی مسروق، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا: تین باتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان میں سے کوئی بھی بات کہی، اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا مسروق نے ان سے کہا: یہ باتیں کون سی ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا جواب دیا: اول: جس نے دعویٰ کیا کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا مسروق ٹیک لگائے ہوئے تھے، مگر سیدھے ہو گئے اور ان سے کہا: آپ یہ بات کیسے کہیں گے؟ میں نے کہا کہ محمد نے اپنے رب کو نہیں دیکھا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ولقد رآه بالأفق المبين اس نے اس کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی (التکویر: 23)، نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ولقد رآه تزلة أخرى بے شک اسے تو ایک مرتبہ اور

بھی دیکھا تھا (النجم : 13)؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی ان دونوں آیتوں سے متعلق رسول اللہ سے پوچھا تھا، تو آپ نے بتایا کہ آپ نے تو جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا ان دو مواقع کے سوا اور کوئی موقع ایسا نہیں ہے، جب جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل صورت میں دیکھا ہو، جس پر اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے ایک مرتبہ سورج نکلنے کی جگہ کے کنارے، جب کہ ہر چیز واضح اور ظاہر ہو جاتی ہے اور دوسری مرتبہ آپ نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی بناوٹ کی بڑائی یعنی بھاری بھر کم جسامت نے آسمان و زمین کی درمیانی جگہ کو گھیر رکھا تھا پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کے کا اپنے رب کو نہ دیکھنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے لی: **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ** اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے (الانعام: 103) اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے: **وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَكُونُ** کے کسی بند سے اللہ تعالیٰ کلام کرے، مگر وحی کے ذریعے، پردہ کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے، جو وہ چاہے، وحی کرے بہ شک و برتر ہے، حکمت والا ہے (الشوری: 51) دوم: جس نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ نے اللہ کی کتاب سے کچھ چھپا لیا ہے، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ إِنْ رَسُولٌ جِئَ بِشَيْءٍ مِنْ رَبِّهِ فَيَحْتَفِظْهُ إِلَّا وَجْهًا لِقَوْمٍ يُحِبُّونَ** آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، بچا دیجیے اگر آپ نے ایسا نہ کیا، تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی (المائدہ: 67) سوم: جس نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر از خود مستقبل کی باتیں بتائیں ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ كَذَّبِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ سَمِعُوا بِحَدِيثِ رَسُولِهِ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ بِآيَاتٍ كَمَا آتَىٰ آبَاءَهُمْ قَبْلَ هَذَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ** انہوں نے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا (النمل: 65)

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/10420>



النَّجَاةُ الْخَيْرِيَّةُ
ALNAJAT CHARITY

